

## فعال فیئر فیکس پروجیکٹ کا خلاصہ۔

فیئر فیکس کاؤنٹی، سائیکل ماسٹر منصوبے اور پوری کاؤنٹی میں راہوں کے منصوبے کو ملا کر ایک - فعال فیئر فیکس نقل و حمل منصوبہ بنا رہی ہے۔ فعال نقل و حمل سے مراد خود سے تحریک یافتہ، اکثر و بیشتر انسانی توانائی سے انجام پانے والا سفر ہوتا ہے جس میں نقل و حمل اور تفریح کے مقاصد سے پیدل چلنا، سائیکل چلانا، چہل قدمی کرنا (اسکوٹر/وبیل چیئر/اسٹروٹر)، لمبی مسافت پیدل طے کرنا، دوڑنا اور گھوڑے کی سواری کرنا شامل ہیں۔ یہ منصوبہ فیئر فیکس کاؤنٹی میں محفوظ، آرام دہ اور خوش کن گلیوں اور راہوں کے نفاذ کے لئے ایک وژن اور روڈ میپ قائم کرے گا۔

## اپنے خیالات کا اشتراک کریں!

عوامی مشورے فعال فیئر فیکس نقل و حمل منصوبہ (ایکٹو فیئر فیکس ٹرانسپورٹیشن پلان) کی کامیابی کے لئے انتہائی اہم ہیں، اور ہم آپ کے افکار اور خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں! شروعات کرنے کے لئے نیچے کی کسی تصویر پر کلک کریں۔

آپ کے مشورے کے لئے شکریہ!

- **ہمارے کمیونٹی سروے میں حصہ لیں:** یہ سمجھنے میں ہماری مدد کریں کہ آپ فی الحال فعال نقل و حمل کیسے استعمال کرتے ہیں اور فیئر فیکس کاؤنٹی میں فعال نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔ کمیونٹی سروے میں شرکت کرنے کے لئے یہاں کلک کریں:  
<https://www.surveymonkey.com/r/ActiveFairfaxUrdu>
- **کلیدی منازل کے لئے مقامات کے پوائنٹ + رکاوٹیں۔** یہ نقشہ استعمال کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کون کون سی جگہوں میں پیدل چلنا یا سواری کرنا چاہیں گے نیز فعال سفر کی رکاوٹوں کی بھی شناخت کریں (نیچے دیکھیں)۔
- **نئی راہوں، سائیکل کے راستوں کے لئے مجوزہ مقامات + مکمل گلیوں میں بہتریاں۔** یہ نقشہ استعمال کر کے ۲۰۱۳ سائیکل ماسٹر منصوبہ کے منصوبہ بند راستوں اور سائیکل راستوں نیز پوری کاؤنٹی میں راہوں کے منصوبے کو دیکھیں۔ ہمیں نیٹ ورک کی کسی غائب کڑیوں کے بارے میں بتائیں (نیچے دیکھیں)۔

## مکمل گلیاں کیا ہیں؟

مکمل گلیوں میں سبھی استعمال کنندگان کی ضروریات کا متوازن انداز میں خیال رکھا جاتا ہے اور ان میں ایسی جگہیں تخلیق کی جاتی ہیں جہاں پرکشش، محفوظ، اور خوشگوار تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے بنیادی سہولیات کو کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق بنایا جاتا ہے جیسے کہ فٹ پاتھ، محفوظ سائیکل راستے، متوازی پارکنگ، نیز درختوں، روشنی کے انتظامات، عوامی فن، اور راستہ کی رہنمائی کرنے والی علامات جیسے فیچر شامل کیے جاتے ہیں۔ بنیادی سہولیات اور اس میں موجود فیچرس کا انحصار پڑوس کی نوعیت اور کمیونٹی کی خواہشات پر ہوتا ہے۔

## کلیدی منازل + رکاوٹوں کا نقشہ

ہمیں فیئر فیکس کاؤنٹی میں اپنے پیدل چلنے، سائیکل چلانے، چہل قدمی کرنے یا گھوڑے کی سواری کرنے کے اپنے تجربہ کے بارے میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ورزش یا آرام/تفریح کرنے کی ضرورت کے لئے آپ کو جہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کے فعال سفر کے بارے میں ارادہ کرنے کی کون سے عوامل حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ نیچے دی گئی معلومات میں ان مختلف طریقوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جن کا استعمال کر کے آپ صفحہ کے نیچے نقشے میں اپنے خیالات کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

- وہ مقامات جہاں میں پیدل چل کر، سائیکل کی سواری کر کے، ٹہلتے ہوئے یا گھوڑسواری کر کے جانا چاہتا ہوں کام کرنے، اسکول جانے، پارک کرنے، لائبریری جانے، وغیرہ کے لئے
- سائیکل، اسکوٹر یا ڈیوائس پر سواری کرنے کی رکاوٹیں کوئی سائیکل راستے/لینس نہیں، چنوتی بھرے چوراہے، سائیکل پارکنگ کی کمی، وغیرہ
- راستے تک رسائی کی رکاوٹ سائیکل/پیدل/نقل و حمل کے محدود رابطے، بحالی کی ضرورت، کافی روشنی کے انتظامات نہیں، وغیرہ
- پیدل چلنے کی رکاوٹ فٹ پاتھ یا راستے کے نیٹ ورک میں خلا، کراس واک کی کمی، ناقص پیدل پٹری، وغیرہ
- نقل و حمل تک رسائی کی رکاوٹ محدود سائیکل/پیدل/نقل و حمل کنیکشنز، بس اسٹاپ، گلی میں روشنی کے انتظامات، بس اسٹاپ پر سائیکل پارکنگ کی دستیابی، وغیرہ

#### ان آسان اقدامات پر عمل کریں:

- ۱۔ اپنے پڑوس یا دلچسپی کے علاقہ کو زوم کر کے دیکھیں۔
- ۲۔ شروعات کرنے کے لئے ”تبصرہ چھوڑیں“ پر کلک کریں۔
- ۳۔ پاپ اپ ونڈو میں اپنا تبصرہ اور اختیاری تصویر بھریں۔
- ۴۔ دوسرے تبصروں سے اتفاق کریں یا ان کا جواب دیں۔
- ۵۔ جتنی مرتبہ چاہیں دہرائیں۔

ہدایات سے متعلق پاپ اپ دوبارہ دیکھنے کے لئے اوپر دہائی طرف کونے میں موجود سوالیہ نشان کے آئیکن پر کلک کریں۔

کلیدی منازل + رکاوٹوں کا نقشہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یہاں کلک کریں:

<https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourcingReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d>

#### نئے راستے، سائیکل راستے + مکمل گلیوں میں بہتریوں کا نقشہ

۱۹۷۰ کی دہائی سے، فیئر فیکس کاؤنٹی ایک جامع راستہ اور سائیکل راستہ نیٹ ورک کے نئیں کام کر رہا ہے تاکہ فیئر فیکس کاؤنٹی میں پیدل یا گاڑی کے ذریعہ ادھر ادھر جانے میں زیادہ آسانی ہو نیز پیدل چلنے والوں کے آرام کی خاطر پرکشش باغیچے لگانے، فٹ پاتھ پر روشنی کے انتظامات کرنے، اور تپائیاں لگا کر اقتصادی علاقوں کی گلیوں کو اپ گریڈ کرنے کے میدان میں بھی کام کیا ہے۔

نیچے دی گئی معلومات میں موجود منصوبہ بند فعال نقل و حمل نیٹ ورک کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں ان طریقوں کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے جنہیں استعمال کر کے آپ اس صفحے کے نیچے والے حصے سے پیوستہ نقشے میں اپنے خیالات کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

#### موجودہ منصوبہ بند فعال نقل و حمل نیٹ ورک:

اس نقشے میں ۲۰۱۳ سائیکل ماسٹر منصوبے کے منصوبہ بند راستہ اور سائیکل راستہ نیٹ ورک اور ۲۰۱۸ پوری کاؤنٹی میں راستوں کے منصوبے کو صرف معلوماتی مقاصد کے لئے دکھایا گیا ہے اور اس منصوبہ بند نیٹ ورک اور مجوزہ سہولتوں پر فعال فیئر فیکس نقل و حمل منصوبہ کے آئندہ مرحلہ کے دوران نظرثانی اور اس کی تجدید کی جائے گی۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ جامع منصوبہ کے اندر کاؤنٹی کی سبھی سڑکوں کے دونوں کنارے کم از کم سہولت کے طور پر ۵ فٹ چوڑے فٹ پاتھ کی تجویز پہلے ہی موجود ہے۔

- **منصوبہ بند آن اسٹریٹ سائیکل راستے** - آن اسٹریٹ سائیکل راستے گلیوں کے ساتھ چلنے والے وہ راستے ہوتے ہیں جنہیں لینس کے طور پر متعین کر دیا جاتا ہے، جن سے سائیکل، اسکوٹر، یا دیگر چھوٹی گاڑیوں کے سواروں کو کاؤنٹی میں آنے جانے میں مدد ملتی ہے یا وہ کاؤنٹی کی ایسی پڑوس والی گلیوں میں بنے ہوتے ہیں جنہیں افراد اور کاریں محفوظ طور پر استعمال کر سکتی ہیں۔
- **منصوبہ بند سخت سطح والا راستہ** - سخت سطح والے راستے کشادہ، فرش والے نیز ٹریفک سے علیحدہ ہوتے ہیں جن پر پیدل چلنا، سائیکل پر چلنا یا فطرت کے ساتھ چہل قدمی کرنا یا سڑکوں کے ساتھ چلنا محفوظ ہوتا ہے۔
- **منصوبہ بند ملائم سطح والا راستہ** - ملائم سطح والے راستے لمبی مسافت پیدل طے کرنے اور پہاڑ پر سائیکل سواری کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں (جہاں اجازت ہو)۔
- **سرگرمی کے مراکز** - سرگرمی کے مراکز کو نقشے پر ہلکے نیلے رنگ میں دکھا یا گیا ہے۔ ان علاقوں میں، عوام کے لئے مختلف سرگرمیوں کی سہولت دینے اور روشنی کے انتظامات کرنے کی تجاویز لاگو ہو سکتی ہیں۔

### نئے راستوں اور مکمل گلیوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں!

نیچے جس قسم کی بہتری کو بیان کیا گیا ہے اس کے لئے نئے راستوں سے متعلق اپنے خیالات کا آپ متعدد طریقوں پر اشتراک کر سکتے ہیں:

- **منصوبہ بند نیٹ ورک میں ایک مکمل گلی کی بہتری شامل کریں** - اس میں عوام کے لئے مختلف سرگرمیوں کی سہولت دینا، روشنی کے انتظامات کرنا، تپائیاں لگانا وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں
- **منصوبہ بند نیٹ ورک میں ایک آن اسٹریٹ سائیکل راستہ شامل کریں** - اس میں سائیکل گلیاں، بفرڈ یا محفوظ کردہ سائیکل راستے، اور مشترکہ پڑوس والی گلیاں شامل ہو سکتی ہیں
- **منصوبہ بند نیٹ ورک میں ایک ملائم سطح والا/چہل قدمی کیا راستہ شامل کریں** - اس میں لمبی مسافت پیدل طے کرنے، گھوڑے کی سواری کرنے اور پہاڑی پر سائیکل چلانے کے راستے شامل ہو سکتے ہیں
- **منصوبہ بند نیٹ ورک میں سخت سطح والا راستہ/مشترکہ استعمال والی راہ شامل کریں** - اس میں ہریالی سے ہو کر گزرنے والے یا سڑکوں کے کنارے چلنے والے فرش دار/پختہ راستے شامل ہو سکتے ہیں

### ان آسان اقدامات پر عمل کریں:

- ۱۔ اپنے پڑوس یا دلچسپی کے علاقہ کو زوم کر کے دیکھیں۔
- ۲۔ شروعات کرنے کے لئے ”تبصرہ چھوڑیں“ پر کلک کریں۔
- ۳۔ پاپ اپ ونڈو میں اپنا تبصرہ اور اختیاری تصویر بھریں۔
- ۴۔ دوسرے تبصروں سے اتفاق کریں یا ان کا جواب دیں۔
- ۵۔ جتنی مرتبہ چاہیں دہرائیں۔

ہدایات سے متعلق پاپ اپ دوبارہ دیکھنے کے لئے اوپر دہنی طرف کونے میں موجود سوالیہ نشان کے آئیکن پر کلک کریں۔

نئے راستے، سائیکل راستے + مکمل گلی بہتریوں کے نقشہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یہاں کلک کریں:

<https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourcingReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d>